



سوال

(590) عاق نامہ کی اصل صورت

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عاق نامہ بوجہ نافرمانی کی اصل صورت کیا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عامۃ الناس کے ہاں "عاق" کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی قریبی تعلق دار کو نافرمانی کی بناء پر وراثت سے محروم کر دینا لیکن شریعت کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں شرع میں محرومی ارث کے اسباب معروف ہیں (ماحق قتل اختلاف دین غلامی) عاق کرنا ان سے نہیں لہذا اس بناء پر کسی بھی وارث کو وراثت سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

[فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ](#)

ج 1 ص 865

محدث فتویٰ